

## 45908- کفارہ کے روزوں میں حیض آنے سے تسلسل میں انقطاع پیدا نہیں ہوتا

سوال

ایک عورت اپنے گناہ کے کفارہ میں دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ رہی ہے اور ماہواری کی بنی پر روزے رکھی کرے گا تو کیا دو ماہ کے بعد اس پر ان روزوں کی قضاۓ واجب ہو گی یا کچھ اور

؟

پسندیدہ جواب

جس پر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنے لازم ہوں اور اسے حیض آجائے تو ان ایام میں وہ روزے نہیں رکھے گی بالاجماع پھر روزے مکمل کرنے کے بعد ماہواری کے ایام میں ترک کردہ روزوں کی قضاۓ میں روزے رکھے گی۔

ابن قادمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

(اہل علم کا اجماع ہے کہ تسلسل سے روزے رکھنے والی عورت کو اگر روزے مکمل کرنے سے قبل جی ماہواری آجائے تو وہ پاک ہونے کے بعد ان کی قضاۓ کرے گی اور اسی پر بنا بھی کرے گی کیونکہ دو ماہ میں حیض سے بچنا ممکن نہیں، صرف ایک صورت میں کہ اگر حیض آنا بند ہو جائے)۔ انتہی۔

ویکھیں : المغنى لابن قدامة (21/8)۔

واللہ اعلم.